

East Asia Summit Senior Officials' Meeting (EAS SOM)

June 24, 2021

ایسٹ ایشیاء سمٹ کے سینئر عہدیداروں کی میٹنگ (EAS SOM)

24 جون، 2021

1- سکریٹری (مشرق) محترمہ ریوا گنگولی داس نے 24 جون 2021 کو ایسٹ ایشیاء سمٹ کے سینئر عہدیداروں کی میٹنگ (EAS SOM) میں شرکت کی۔ اس ورچوئل میٹنگ کی صدارت برونائی دارالسلام کے مستقل سکریٹری عزت مآب محترمہ ایمالین عبد الرحمن تیو نے کی، اور 18 ایسٹ ایشیاء سمٹ ممالک کے سینئر عہدیداروں نے اس میں شرکت کی۔

2- اس میٹنگ میں قائدین کی زیر قیادت ایسٹ ایشیاء سمٹ پلیٹ فارم کو مضبوط بنانے اور ابھرتے چیلنجوں کے مقابلہ میں اس کو زیادہ موثر اور ذمہ دار بنانے کے طریقوں اور ذرائع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر عہدیداروں نے موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی پیشرفتوں پر تبادلہ خیال کیا جس میں کووڈ-19 وبائی بیماری اور وبائی بیماری کے بعد بحالی، بحیرہ جنوبی چین، جزیرہ نما کوریا کی صورتحال، میانمار میں ہونے والی پیشرفت اور دہشت گردی سے متعلقہ امور شامل ہیں۔ اس اجلاس میں ایسٹ ایشیاء سمٹ فریم ورک کے تحت شریک ممالک کی طرف سے کئے گئے وعدوں کی حالت اور منیلا پلان آف ایکشن (2018-2022) کے نفاذ میں پیشرفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔

3- سکریٹری (مشرق) نے اپنے ریمارکس میں، آسیان اور آسیان کی زیرقیادت میکانزم کے موجودہ چیئر کی حیثیت سے برونائی دارالسلام کے جانب سے ادا کردہ قائدانہ کردار کے لئے ہندوستان کی تعریف کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہند بحر الکابل کے خطے میں قیام امن اور استحکام کے لئے ایک اہم طریقہ کار کے طور پر ایسٹ ایشیاء سمٹ کے کردار پر زور دیا، اور اسے اور مضبوط اور زیادہ ذمہ دار بنانے کے لئے بھارت کی اعانت کا اعادہ کیا۔ آسیان کی مرکزیت کو مانتے ہوئے، ایک آزاد، کھلا، جامع اور قواعد پر مبنی ہند بحر الکابل کے خطے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آسیان آؤٹ لک آن انڈو پیسیفک (AOIP) اور انڈو پیسیفک اوقیانوس انیشی ایٹو (IPOI) کے مابین مضبوط ہم آہنگی کا ذکر کیا جو علاقائی تعاون کو بڑھانے کے لئے مشترکہ بنیاد فراہم کرتا ہے۔

4- اس ملاقات کے دوران، سکریٹری (مشرق) نے بین الاقوامی قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے بحیرہ جنوبی چین میں امن و استحکام، نیویگیشن کی آزادی اور اوور فلائٹ میں ہندوستان کی دلچسپی کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ زیر مذاکرات کوڈ آف کنڈکٹ کو تیسرے فریق کے جائز مفادات کے حوالے سے تفریق نہیں کرنا چاہئے اور اسے بحریہ کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن (یو این سی ایل او ایس) کے ساتھ موافق ہونا چاہئے۔

5- میانمار میں ہونے والی پیشرفت کے حوالے سے، انہوں نے آسیان عمل کے لئے ہندوستان کی حمایت کا اظہار کیا اور بتایا کہ میانمار کے دوست اور قریبی پڑوسی کی حیثیت سے ہندوستان وہاں کی موجودہ صورتحال کو حل کرنے میں تعمیری اور معنی خیز کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے دیگر امور میں دہشت گردی سے متعلق بھارت کے موقف کو بھی پیش کیا۔

نئی دہلی

24 جون، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.